



## سوال

(167) کیا میاں بیوی کے ننگے ہونے سے غسل واجب ہو جائے گا؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب میاں بیوی دونوں ننگے ہو جائیں تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے مباشرت یا مجامعت نہیں کی؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دخول کے بغیر غسل واجب نہیں ہوتا۔ یعنی جب مرد عورت سے جماع کرے خواہ منی کا انزال ہو یا نہ ہو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

‘إِذَا لَتَقِيَ الْيَتَانِ الْيَتَانَ، فَهَذَا وَجِبَ الْغُسْلُ۔ سنن الکبریٰ للبیہقی، باب وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِنْتِئَانِ، رقم: ۷۶۶، صحیح مسلم، باب نَسَجِ النَّاءِ مِنَ النَّاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِنْتِئَانِ الْيَتَانِ، رقم: ۳۳۹

‘دونوں (کی) شرم گاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا۔‘

دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

‘إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَتَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَمَعَا، فَهَذَا وَجِبَ الْغُسْلُ۔ صحیح البخاری، باب: إِذَا لَتَقِيَ الْيَتَانِ، رقم: ۲۹۱

‘آدمی جب عورت کے ہاتھ پاؤں کے درمیان بیٹھ جائے۔ پھر اُسے مشقت میں ڈال دے تو غسل واجب ہو گیا۔‘

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ وجوبِ غسل کے لیے دخول شرط ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



## كتاب الطهارة: صفحة: 173

محدث فتوى